



## این سے اے میں جاری اے سی سی لیول 1 ویمن کوچنگ کورس مکمل ہوگیا

- تین روزہ کورس میں 11 ممالک کی 16 خواتین نے مختلف تربیتی سیشنز میں شرکت کی

لاہور، 19 اکتوبر 2019ء:

نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور میں جاری اے سی سی لیول 1 ویمن کوچنگ کورس ہفتے کے روز مکمل ہوگیا۔ تین روزہ کورس میں این سی اے کے کوچز نے شرکاء کو لیکچرز دئیے۔ کورس میں شریک 11 ممالک کی 16 خواتین نے کوچنگ کے گر سیکھے۔

اے سی سی لیول 1 ویمن کوچنگ کورس میں 4 پاکستانی خواتین نے شرکت کی۔ لاہور کی فریحہ محمود، گلگت سے تعلق رکھنے والی تسلیم بانو، ایبٹ آباد کی عاتکہ صابر خان اور راولپنڈی کی رہائشی شہلا بی بی نے کورس میں پاکستان کی نمائندگی کی۔

ایشین کرکٹ کونسل کی جانب سے خواتین کرکٹ کے فروغ کے لیے ترتیب دیئے گئے کورس کا انعقاد پہلی بار کیا گیا۔ کورس میں افغانستان، بھوٹان، بحرین، ہانگ کانگ، ایران، کویت، ملائیشیا، مالدیپ، اومان اور متحدہ عرب امارات کی خواتین نے بھی شرکت کی۔

علی ضیاء، سینئر جنرل منیجر این سی اے:

سینئر جنرل منیجر نیشنل کرکٹ اکیڈمی علی ضیاء کا کہنا ہے کہ کورس میں شریک خواتین کو کھیل کی بنیادی تعلیمات فراہم کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ 16 خواتین اب 12 سے 14 سال کے ایج گروپ کو کرکٹ سیکھانے کے لیے تیار ہیں۔

اے سی سی لیول 1 ویمن کوچنگ کورس کو 3 مرحلوں پر مشتمل تھا۔ پہلے مرحلے میں این سی اے کے کوچز نے بطور انسٹرکٹر شرکاء کو ملٹی میڈیا پر لیکچرز دئیے۔

دوسرے مرحلے میں شرکاء کو بیٹنگ، باؤلنگ، فیلڈنگ اور وکٹ کیپنگ کی بنیادی معلومات فراہم کی گئیں۔

کورس میں شریک خواتین کا امتحان آخری مرحلے میں لیا گیا۔

### عاتکہ صابر خان:

ایبٹ آباد کی رہائشی عاتکہ صابر خان کا کہنا ہے کہ وہ 2008 سے 2014 تک ریجنل کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کرچکی ہیں مگر کوچنگ سیکھنا ایک یکسر مختلف تجربہ رہا۔ انہوں نے کہا اس کورس میں شرکت سے ان کے علم میں اضافہ ہوا ہے اور وہ ایبٹ آباد واپس لوٹ کر سکول اور کالج کی طالبات کو مؤثر انداز میں کرکٹ سیکھائیں گی۔

قومی کرکٹر فریحہ محمود نے کورس میں شرکت کی غرض سے بنگلہ دیش کے خلاف قومی کرکٹ ٹیم کے تربیتی کیمپ سے 3 روز کی رخصت لی تھی۔

### فریحہ محمود:

لاہور سے تعلق رکھنے والی قومی خاتون کرکٹر فریحہ محمود کا کہنا ہے کہ کورس میں مختلف ممالک کی خواتین کی شرکت ان کے لیے فائدہ مند رہی۔ انہوں نے کہا کہ تین روزہ کورس میں شرکت سے انہیں اپنی خامیوں پر قابو پانے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ قومی ٹیم کے تربیتی کیمپ میں شریک دیگر کرکٹرز سے اس مفید تجربے کا تبادلہ لازمی کریں گی۔

### شہلا بی بی:

شہلا بی بی کا کہنا ہے کہ واہ کینٹ راولپنڈی کی خواتین میں کرکٹ کا بہت ٹیلنٹ ہے مگر بدقسمتی سے وہاں کوئی خاتون کوچ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے سی سی لیول 1 ویمن کوچنگ کورس مکمل کرنے کے بعد وہ اپنے علاقے میں خواتین کو کرکٹ کی کوچنگ فراہم کریں گی۔

### تسلیم بانو:

گلگت کی رہائشی تسلیم بانو کا کہنا ہے کہ ان کا تعلق ایک ایسے علاقے سے ہے جہاں کسی کے پاس کرکٹ کی بنیادی معلومات نہیں۔ انہوں نے کہا کہ کورس میں شرکت

سے قبل کھیل سے متعلق ان کا خود کا علم بھی محدود تھا۔

تسلیم بانو نے کہا کہ وہ گلگت واپسی پر بچوں کو کرکٹ کھیلانے کے لیے والدین کو قائل کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ تعلیمی اداروں میں طالبات کو کرکٹ سیکھانے کی کوشش کریں گی۔

کورس کے اختتام پر شرکاء میں اسناد تقسیم کی گئیں۔

## شرکاء:

عاتکہ صابر خان (پاکستان)، اوائف الکلاف (کویت)، دیشن وانگمو (بھوٹان)، ایلناز پروین (ایران)، امیلیا ایلانی (ملائیشیا)، فریحہ محمود (پاکستان)، خدیجہ خلیل (کویت)، مریم زونا (مالدیپ)، میرا بہنوشالی (اومان)، نوال طاہر محمود (بحرین)، شمیلا چتوریکا (یو اے ای)، شانزے شہزاد (ہانگ کانگ)، شازیہ رحمن (افغانستان)، شہلا بی بی (پاکستان)، تسلیم بانو (پاکستان)، ویشالی جیسرانی (اومان)۔

– ENDS –

Media contact:

### **Ibrahim Badees Muhammad**

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: [ibrahim.badees@pcb.com.pk](mailto:ibrahim.badees@pcb.com.pk)

M: +92 (0) 345 474 3486

W: [www.pcb.com.pk](http://www.pcb.com.pk)

### **ABOUT THE PCB**

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the country.

The PCB's purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men's and women's cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series.

The PCB is committed to developing ground and facility infrastructure, monitoring the implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training provision for officials and coaches.

Commercial Partners



[www.pcb.com.pk](http://www.pcb.com.pk) ●  
@therealpcb ●  
@PakistanCricketBoard ●  
@PakistanCricketOfficial ●  
@therealpcb ●

**PCB Headquarters**  
Gaddafi Stadium  
Ferozpur Road, Lahore  
Pakistan, PO Box 54000  
T: +92 42 3571 7231-4